

Dua Ahad

As the title suggests, this supplication is of allegiance (ahad) to the holy Imam (a.t.f.s). Its recitation every morning ensures the renewal of this covenant. The reciter finds himself under the leadership of Imam (a.t.f.s).The reciter beseeches All to include him among the helpers and aides of Imam (a.t.f.s) and to grant him the opportunity to attain martyrdom in his presence. Also, he requests Allah that should he die before the reappearance of Imam (a.t.f.s). Allah should raise him up from his grave so that he may assist him (a.t.f.s) in his mission. There is a fervent appeal to Allah to grant him the honour of seeing Imam (a.t.f.s). In this there is also an acknowledgement that the difficulties of this nation can be solved only by the reappearance of Imam (a.t.f.s) and that believers see it as being close while others deem it to be distant.

دعاۓ العہد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ رَبَّ النُّورِ الْعَظِيمِ

اے معود اے عظیم نور کے پرودگار

وَرَبَّ الْكُرْسِيِّ الْرَّفِيعِ

اے بلند کرسی کے پرودگار

وَرَبَّ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ

اے موبین مارتے سمندر کے پرودگار

وَمُنْزِلَ الْتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزُّبُورِ

اور اے توریت اور انجیل اور زبور کے نازل کرنے والے

وَرَبَّ الظِّلَّ وَالْحَرُورِ

اور اے سایہ اور دھوپ کے پرودگار

وَمُنْزِلَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ

اے قرآن عظیم کے نازل کرنے والے

وَرَبَّ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

اے مقرب فرشتوں کے پورڈگار

وَالْأَنْبِيَاٰ وَالْمُرْسَلِينَ

اور فرستادہ نبیوں اور رسولوں کے پورڈگار

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِإِسْمِكَ الْكَرِيمِ

اے معبد بے شک میں سوال کرتا ہوں تیری ذات کریم کے واسطے سے

وَبِنُورِ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ

تیری روشن ذات کے نور کے واسطے سے

وَمُلْكِكَ الْقَدِيمِ

اور تیری قدیم بادشاہی کے واسطے سے

يَا حَيٌّ يَا قَيْوُمُ

اے زندہ اے پاندہ

اسْأَلُكَ بِإِسْمِكَ الَّذِي اشْرَقْتَ بِهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُونَ

تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نام کے واسطے سے جس سے چک رہے ہیں سارے آسمان اور ساری زمینیں

وَبِإِسْمِكَ الَّذِي يَصْلَحُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ

تیرے نام کے واسطے سے جس سے اولین و آخرین نے بھلانی پائی

يَا حَيٰاً قَبْلَ كُلِّ حَيٍّ

اے زندہ ہر زندہ سے پہلے

وَيَا حَيٰاً بَعْدَ كُلِّ حَيٍّ

اور اے زندہ ہر زندہ کے بعد

وَيَا حَيٰاً حِينَ لَا حَيٍّ

اور اے زندہ جب کوئی زندہ نہ تھا
یا مُحْيِی الْمَوْتَىٰ وَمُمِيتَ الْأَحْيَاءِ
اے مردوں کو زندہ کرنے والے اے زندوں کو موت دینے والے
یا حَيٌّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
اے وہ زندہ کہ تیرے سوا کوئی معبد نہیں
اللَّهُمَّ بَلِّغْ مَوْلَانَا الْإِلَامَ الْهَادِيَ الْمَهْدِيَ الْقَائِمَ بِإِمْرِكَ
اے معبد ہمارے مولا امام ہادی مہدی کو جو تیرے حکم سے قائم ہیں
صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آبَائِهِ الْطَّاهِرِينَ
ان پر اور ان کے پاک بزرگان پر خدا کی رحمتیں ہوں
عَنْ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
اور تمام مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کی طرف سے
فِي مَسَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا
جو زمین کے مشرق اور مغاریوں میں ہیں
سَهْلِهَا وَجَبَلِهَا
میدانوں اور پہاڑوں
وَبَرِّهَا وَبَحْرِهَا
اور خیکوں اور سمندروں میں
وَعَنِي وَعَنْ وَالِدَيَ
میری طرف سے میرے والدین کی طرف سے
مِنَ الْصَّلَواتِ زِنَةَ عَرْشِ اللَّهِ
بہت درود پہنچا دے جو ہم وزن ہو
وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

عرش اور اسکے کلمات کی روشنائی کے

وَمَا احْصَاهُ عِلْمُهُ وَاحْاطَ بِهِ كِتَابُهُ

اور جو چیزیں اس کے علم میں ہیں اور اس کی کتاب میں درج ہیں

اللَّهُمَّ إِنِّي أَجَدِدُ لَهُ فِي صَبِيحةٍ يَوْمِي هَذَا

اے معبد میں تازہ کرتا ہوں ان کے لیے آج کے دن کی صح کو

وَمَا عَشْتُ مِنْ أَيَّامٍ

اور جب تک زندہ ہوں باقی ہے یہ پیمان

عَهْدًا وَعَهْدًا وَيَعْتَدُ لَهُ فِي عُنْقِي

یہ بندھن اور ان کی بیعت جو میری گردن پر ہے

لَا احُولُ عَنْهُ وَلَا ازُولُ ابْدًا

نہ اس سے مکروں گانہ کبھی ترک کروں گا

اللَّهُمَّ أَجْعَلْنِي مِنْ انصَارِهِ

اے معبد مجھے ان کے مددگاروں ان کے ساتھیوں

وَاعْوَانِهِ وَالْذَّائِينَ عَنْهُ

اور ان کا دفاع کرنے والوں قرار دے

وَالْمُسَارِعِينَ إِلَيْهِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجهِ

میں حاجت برآری کیلئے ان کی طرف بڑھنے والوں

وَالْمُمْتَثِلِينَ لِوَامِرِهِ

انکے احکام پر عمل کرنے والوں

وَالْمُحَامِينَ عَنْهُ

انکی طرف سے دعوت دینے والوں

وَالسَّابِقِينَ إِلَى إِرَادَتِهِ

انکے ارادوں کو جلد پورے کرنے والوں

وَالْمُسْتَشْهَدِينَ يَبْيَنَ يَدِيهِ

اور انکے سامنے شید ہونے والوں میں قرار دے

اللَّهُمَّ إِنْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْمَوْتُ الَّذِي جَعَلْتُهُ عَلَى عِبَادِكَ حَتَّمًا مَقْضِيًّا

اے معبدوں گر میرے اور میرے امام کے درمیان موت حاصل ہو جائے تو نے اپنے بندوں کے لیے آمادہ کر رکھی ہے

فَاخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي مُؤْتَرًا كَفَنِي

تو پھر مجھے قبر سے اس طرح نکالنا کہ کھن میرا لباس ہو

شَاهِرًا سَيْفِي

میری توار بے نیام ہو

مُجَرِّدًا قَنَاتِي

میرا نیزہ بلند ہو

مُلَبِّيًّا دَعْوَةَ الْدَّاعِي فِي الْحَاضِرِ وَالْبَادِي

دائی حق کی دعوت پر لبیک کھوں شہر اور گاؤں میں

اللَّهُمَّ ارِنِي الْطَّلَعَةَ الْرَّشِيدَةَ

اے معبدوں مجھے حضرت کا رخ نیبا

وَالْغُرَّةَ الْحَمِيدَةَ

آپ کی درختاں پیشانی دکھا

وَأَكْحُلْ نَاظِرِي بِنَظْرِهِ مِنِي إِلَيْهِ

ان کے دیوار کو میری آنکھوں کا سرمہ بنا

وَعَجِّلْ فَرَاجَهُ

ان کی کشاوری میں بدلی فرا

وَسَهَّلْ مَخْرَجَهُ

ان کے ظہور کو آسان بنا

وَأَوْسِعْ مَنْهَجَهُ

ان کا راستہ وسیع کر دے

وَأَسْلُكْ بِي مَحَجَّتَهُ

اور مجھ کو ان کی راہ پر چلا

وَانْفِذْ أَمْرَهُ

ان کا حکم جاری فرمایا

وَأَشْدُدْ اِزْرَهُ

ان کی قوت کو بڑھا

وَاعْمِرْ اللَّهُمَّ بِهِ بِلَادَكَ

اور اے معبدوں کے ذریعے اپنے شہر آباد کر

وَاحْمِي بِهِ عِبَادَكَ

اور اپنے بندوں کو عزت کی زندگی دے

فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ:

کیونکہ تو نے فرمایا اور تیرا قول حق ہے کہ

«ظَاهِرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

ظاہر ہوا فسادِ خلکی اور سمندر میں

بِمَا كَسَبَتْ اِيْدِي الْنَّاسِ.»

یہ نتیجہ ہے لوگوں کے غلط اعمال و افعال کا

فَاظْهِرِ اللَّهُمَّ لَنَا وَلِتَكَ

پس اے معبدوں ظہور کر ہمارے لیے اپنے ولی

وَابْنَ بِنْتِ نَبِيِّكَ

اور اپنے نبی کی دختر (س) کے فرزند کا

الْمُسَمَّى بِاسْمِ رَسُولِكَ

جن کا نام تیرے رسول کے نام پر ہے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

الشُّفَّاعَةُ

حَتَّىٰ لَا يَظْفَرَ بِشَيْءٍ مِّنَ الْبَاطِلِ إِلَّا مَرَّقَهُ

یہاں تک کہ وہ باطل کا نام و نشان مٹا ڈالیں

وَيُحَقِّ الْحَقَّ وَيُحَقِّقُهُ

حق کو حق کہیں اور اسے قائم کیں

وَاجْعَلْهُ اللَّهُمَّ مَفْزَعًا لِمَظْلومٍ عِبَادِكَ

اے معبد قرار دے انکو اپنے مظلوم بندوں کیلئے جائے پناہ

وَنَاصِرًا لِمَنْ لَا يَجِدُ لَهُ نَاصِرًا غَيْرِكَ

اور ان کے مدگار جن کا تیرے سوا کوئی مدگار نہیں بنا

وَمُجَدِّداً لِمَا عُطِّلَ مِنْ أَحْكَامٍ كِتَابِكَ

ان کو یعنی کتاب کے ان احکام کے زندہ کرنے والے جو بھلا دیئے گئے

وَمُشَيْدِاً لِمَا وَرَدَ مِنْ أَعْلَامٍ دِينِكَ وَسُنْنِ نَبِيِّكَ

ان کو اپنے دین کے غاص احکام اور اپنے نبی کے طریقوں کو راح کرنے والے بنا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

ان پر اور انکی آں پر خدا کی رحمت ہو

وَاجْعَلْهُ اللَّهُمَّ مِمَنْ حَصَنْتُهُ مِنْ بَاسِ الْمُعْتَدِينَ

اور اے معبد انہیں ان لوگوں میں رکھ جنکو تو نے ظالموں کے چلے سے بچایا

اللَّهُمَّ وَسُرْرَ نَبِيِّكَ مُحَمَّداً

اے معبد خوشنود کر اپنے بنی محمد کو ان کے دیار سے

صلی اللہ علیہ وآلہ

اللہ علیہ السلام

بِرُوْبَتِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ عَلَى دَعْوَتِهِ

اور جنوں نے ان کی دعوت میں انکا ساتھ دیا

وَأَرْحَمْ أَسْتِكَانَتَا بَعْدَهُ

اور ان کے بعد ہماری حالت زار پر رحم فرمایا

اللَّهُمَّ أَكْشِفْ هَذِهِ الْعُمَّةَ عَنْ هَذِهِ الْأَمَّةِ بِحُضُورِهِ

اے معبد ان کے ظہور سے امت کی اس مشکل اور مصیبت کو دور کر دے

وَعَجِّلْ لَنَا ظُهُورَهُ

اور ہمارے لیے جلد انکا ظہور فرمایا

«إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا.»

کہ لوگ انکو دور اور ہم انہیں نزدیک سمجھتے ہیں

بِرَحْمَتِكَ يَا الرَّحْمَنِ الرَّاحِمِينَ

تیری رحمت کا واسطہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے